

|             |              |
|-------------|--------------|
| Paper:      | B.E_B.Tech   |
| Set Name:   | Set 08       |
| Exam Date:  | 26 July 2022 |
| Exam Shift: | 2            |
| Language:   | Urdu         |

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                    |
| Item No:       | 1                                                                        |
| Question ID:   | <b>144961</b>                                                            |
| Question Type: | MCQ                                                                      |
| Question:      | $x^2 + (3 - a)x + 1 = 2a$ کے جذروں کے مربعوں کے جوڑ کی خفیف ترین قدر ہے۔ |
| A:             | 4                                                                        |
| B:             | 5                                                                        |
| C:             | 6                                                                        |
| D:             | 8                                                                        |

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                           |
| Item No:       | 2                                                                               |
| Question ID:   | <b>144962</b>                                                                   |
| Question Type: | MCQ                                                                             |
| Question:      | اگر $z = x + iy$ مطمئن کرتا ہے $ z  - 2 = 0$ اور $ z - i  -  z + 5i  = 0$ کو تب |
| A:             | $x + 2y - 4 = 0$                                                                |
| B:             | $x^2 + y - 4 = 0$                                                               |
| C:             | $x + 2y + 4 = 0$                                                                |
| D:             | $x^2 - y + 3 = 0$                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                                 |
| Item No:       | 3                                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | <b>144963</b>                                                                                                                                                                         |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                   |
| Question:      | اگر $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 9^2 & -10^2 & 11^2 \\ 12^2 & 13^2 & -14^2 \\ -15^2 & 16^2 & 17^2 \end{bmatrix}$ تب $A'BA$ کی قدر بتائیں۔ |
| A:             | 1224                                                                                                                                                                                  |
| B:             | 1042                                                                                                                                                                                  |
| C:             | 540                                                                                                                                                                                   |

|    |     |
|----|-----|
| D: | 539 |
|----|-----|

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                           |
| Item No:       | 4                                                               |
| Question ID:   | 144964                                                          |
| Question Type: | MCQ                                                             |
| Question:      | $\sum_{\substack{i,j=0 \\ i \neq j}}^n {}^n C_i {}^n C_j$ ہوگا! |
| A:             | $2^{2n} - 2^n C_n$                                              |
| B:             | $2^{2n-1} - 2^{n-1} C_{n-1}$                                    |
| C:             | $2^{2n} - \frac{1}{2} 2^n C_n$                                  |
| D:             | $2^{n-1} + 2^{n-1} C_n$                                         |

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                          |
| Item No:       | 5                                                                                                                                                                              |
| Question ID:   | 144965                                                                                                                                                                         |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                            |
| Question:      | اگر P اور Q منحنی $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ اور $y = x^2$ پر بالترتیب کوئی بھی نقاط ہیں۔ P کی x - محور کی کسی قدر کے لیے P اور Q کے درمیان دوری قلیل ترین ہوگی، کس ایک وقفے میں: |
| A:             | $\left(0, \frac{1}{4}\right)$                                                                                                                                                  |
| B:             | $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$                                                                                                                                        |
| C:             | $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$                                                                                                                                        |
| D:             | $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                                                                 |
| Item No:       | 6                                                                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 144966                                                                                                                                                                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                   |
| Question:      | اگر $a$ کی سب سے بڑی قدر جس کے لئے $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ تفاعل $f_a(x) = \tan^{-1} 2x - 3ax + 7$ غیر خفیفی (non-decreasing) ہو، $\bar{a}$ ہے۔ تب $f_{\bar{a}}\left(\frac{\pi}{8}\right)$ ہوگا۔ |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| A: | $8 - \frac{9\pi}{4(9+\pi^2)}$              |
| B: | $8 - \frac{4\pi}{9(4+\pi^2)}$              |
| C: | $8 \left( \frac{1+\pi^2}{9+\pi^2} \right)$ |
| D: | $8 - \frac{\pi}{4}$                        |

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                 |
| Item No:       | 7                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 144967                                                                                                                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                   |
| Question:      | فرض کریں کہ $\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x - (e^{3x} - 1)}{\alpha x (e^{3x} - 1)}$ کچھ $\alpha \in \mathbb{R}$ کے لئے، تب $\alpha + \beta$ کی قدر ہے۔ |
| A:             | $\frac{14}{5}$                                                                                                                                                        |
| B:             | $\frac{3}{2}$                                                                                                                                                         |
| C:             | $\frac{5}{2}$                                                                                                                                                         |
| D:             | $\frac{7}{2}$                                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                            |
| Item No:       | 8                                                                                                |
| Question ID:   | 144968                                                                                           |
| Question Type: | MCQ                                                                                              |
| Question:      | $x = \frac{\pi}{4}$ پر ہے۔ $\log_e 2 \frac{d}{dx} (\log_{\cos x} \operatorname{cosec} x)$ کی قدر |
| A:             | $-2\sqrt{2}$                                                                                     |
| B:             | $2\sqrt{2}$                                                                                      |
| C:             | -4                                                                                               |
| D:             | 4                                                                                                |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A |
| Item No:       | 9                     |
| Question ID:   | 144969                |
| Question Type: | MCQ                   |

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Question: | کس ایک کے برابر ہیں بتائیں۔<br>$\int_0^{20\pi} ( \sin x  +  \cos x )^2 dx$ |
| A:        | $10(\pi + 4)$                                                              |
| B:        | $10(\pi + 2)$                                                              |
| C:        | $20(\pi - 2)$                                                              |
| D:        | $20(\pi + 2)$                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                                                                            |
| Item No:       | 10                                                                                                                                                                                                                               |
| Question ID:   | 1449610                                                                                                                                                                                                                          |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                              |
| Question:      | فرض کریں کہ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{x^2 - 1} = \frac{x^4 + 2x}{\sqrt{1 - x^2}}$ , $x \in (-1, 1)$ کے حل کی منحنی $y = f(x)$ مبادا سے گزرتی ہے تب $\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} f(x) dx$ ہوگا: |
| A:             | $\frac{\pi}{3} - \frac{1}{4}$                                                                                                                                                                                                    |
| B:             | $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$                                                                                                                                                                                             |
| C:             | $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$                                                                                                                                                                                             |
| D:             | $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                    |
| Item No:       | 11                                                                                       |
| Question ID:   | 1449611                                                                                  |
| Question Type: | MCQ                                                                                      |
| Question:      | (1, 3) سے ناقص $2x^2 + 3y^2 = 5$ پر کھینچی گئی مماسوں کے جوڑے کے درمیان زاویہ حادہ ہوگا۔ |
| A:             | $\tan^{-1}\left(\frac{16}{7\sqrt{5}}\right)$                                             |
| B:             | $\tan^{-1}\left(\frac{24}{7\sqrt{5}}\right)$                                             |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| C: | $\tan^{-1}\left(\frac{32}{7\sqrt{5}}\right)$   |
| D: | $\tan^{-1}\left(\frac{3+8\sqrt{5}}{35}\right)$ |

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                  |
| Item No:       | 12                                                                     |
| Question ID:   | <b>1449612</b>                                                         |
| Question Type: | MCQ                                                                    |
| Question:      | مکافیوں $y = x^2$ اور $y = -(x - 2)^2$ کے لیے یکساں مماس کی مساوات ہے: |
| A:             | $y = 4(x - 2)$                                                         |
| B:             | $y = 4(x - 1)$                                                         |
| C:             | $y = 4(x + 1)$                                                         |
| D:             | $y = 4(x + 2)$                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                                                                                     |
| Item No:       | 13                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question ID:   | <b>1449613</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                       |
| Question:      | فرض کریں کہ ایک دائرے پر موجود دو نقاط P اور Q کے x محور، $x^2 - 4x - 6 = 0$ کے جذر ہیں اور P اور Q کے y محور، $y^2 + 2y - 7 = 0$ کے جذر ہیں۔ اگر PQ دائرہ $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$ کا قطر PQ ہے تب $(a + b - c)$ کی قدر _____ ہے۔ |
| A:             | 12                                                                                                                                                                                                                                        |
| B:             | 13                                                                                                                                                                                                                                        |
| C:             | 14                                                                                                                                                                                                                                        |
| D:             | 16                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                         |
| Item No:       | 14                                                                                                            |
| Question ID:   | <b>1449614</b>                                                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                                                           |
| Question:      | اگر $x - 1 = 0$ زائد $6 - y^2 - kx^2$ کی ہادی خط ہے تب زائد مندرجہ ذیل میں سے کس ایک نقطہ سے گزرتا ہے بتائیں۔ |
| A:             | $(-2\sqrt{5}, 6)$                                                                                             |
| B:             | $(-\sqrt{5}, 3)$                                                                                              |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| C: | $(\sqrt{5}, -2)$         |
| D: | $(2\sqrt{5}, 3\sqrt{6})$ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Item No:       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Question ID:   | 1449615                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Question:      | فرض کریں کہ سمتیہ $\vec{a}$ اس مستوی جو سمتیوں $\hat{i}, \hat{i} + \hat{j}$ سے متعین ہوتا ہے اور اس مستوی جو سمتیوں $\hat{i} - \hat{j}, \hat{i} + \hat{k}$ سے متعین ہوتا ہے کے تقاطع (intersection) کے متوازی ہے تب $\vec{a}$ اور سمتیہ $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ کے درمیان زاویہ منفرجہ ہے: |
| A:             | $\frac{3\pi}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B:             | $\frac{2\pi}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C:             | $\frac{4\pi}{5}$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D:             | $\frac{5\pi}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                                |
| Item No:       | 16                                                                                                                                                                   |
| Question ID:   | 1449616                                                                                                                                                              |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                  |
| Question:      | اگر $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ اور $\frac{\sin^{-1} x}{\alpha} = \frac{\cos^{-1} x}{\beta}$ تب $\sin\left(\frac{2\pi\alpha}{\alpha + \beta}\right)$ کی قدر بتائیں۔ |
| A:             | $4\sqrt{(1-x^2)}(1-2x^2)$                                                                                                                                            |
| B:             | $4x\sqrt{(1-x^2)}(1-2x^2)$                                                                                                                                           |
| C:             | $2x\sqrt{(1-x^2)}(1-4x^2)$                                                                                                                                           |
| D:             | $4\sqrt{(1-x^2)}(1-4x^2)$                                                                                                                                            |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Topic:       | Mathematics-Section A |
| Item No:     | 17                    |
| Question ID: | 1449617               |

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Question Type: | MCQ                                                         |
| Question:      | بولٹن بیان $(q \Rightarrow p) \Leftrightarrow p$ کی نفی ہے: |
| A:             | $(\sim p) \wedge q$                                         |
| B:             | $p \wedge (\sim q)$                                         |
| C:             | $(\sim p) \vee (\sim q)$                                    |
| D:             | $(\sim p) \wedge (\sim q)$                                  |

|                |                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                                   |
| Item No:       | 18                                                                                                                                                      |
| Question ID:   | <b>1449618</b>                                                                                                                                          |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                     |
| Question:      | فرض کریں کہ $X$ دو رکنی طور پر تقسیم کیا گیا بلا منصوبہ متغیر (variable) ہے جس کا درمیانہ 4 ہے اور عدم مطابقت $\frac{4}{3}$ ہے۔ تب $P(X \leq 2)$ 54 ہے: |
| A:             | $\frac{73}{27}$                                                                                                                                         |
| B:             | $\frac{146}{27}$                                                                                                                                        |
| C:             | $\frac{146}{81}$                                                                                                                                        |
| D:             | $\frac{126}{81}$                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                                                                                                      |
| Item No:       | 19                                                                                                                                         |
| Question ID:   | <b>1449619</b>                                                                                                                             |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                        |
| Question:      | تکمیل $\int \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)(\cos x - \sin x)}{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \sin 2x\right)} dx$ ہے:               |
| A:             | $\frac{1}{2} \log_e \left  \frac{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)} \right  + C$ |

|    |                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B: | $\frac{1}{2} \log_e \left  \frac{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)} \right  + C$  |
| C: | $\log_e \left  \frac{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right)} \right  + C$             |
| D: | $\frac{1}{2} \log_e \left  \frac{\tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{12}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right)} \right  + C$ |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section A                                          |
| Item No:       | 20                                                             |
| Question ID:   | <b>1449620</b>                                                 |
| Question Type: | MCQ                                                            |
| Question:      | منحنیوں $y =  x^2 - 1 $ اور $y = 1$ کے ذریعے گھرا ہوا رقبہ ہے۔ |
| A:             | $\frac{2}{3}(\sqrt{2} + 1)$                                    |
| B:             | $\frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1)$                                    |
| C:             | $2(\sqrt{2} - 1)$                                              |
| D:             | $\frac{8}{3}(\sqrt{2} - 1)$                                    |

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                           |
| Item No:       | 21                                                                                                                                              |
| Question ID:   | <b>1449621</b>                                                                                                                                  |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                  |
| Question:      | فرض کریں کہ $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ اور $B = \{3, 6, 7, 9\}$ تب سیٹ $\{C \subseteq A : C \cap B \neq \phi\}$ میں ارکان کی تعداد _____ ہے۔ |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B |
| Item No:       | 22                    |
| Question ID:   | <b>1449622</b>        |
| Question Type: | Numeric Answer        |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | <p>a کی اعظم ترین قدر بتائیں جس کے لیے مستوی جس کے اندر خطوط</p> $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j}) + \mu(-\hat{i} + \hat{j} - a\hat{k})$ اور $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j}) + \lambda(\hat{i} + a\hat{j} - \hat{k})$ ہیں اور نقطہ (1, 4, 2) کے درمیان عمودی فاصلہ $\sqrt{3}$ ہے، _____ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                            |
| Item No:       | 23                                                                                                                                                               |
| Question ID:   | 1449623                                                                                                                                                          |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                   |
| Question:      | <p>ہندسوں 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 سے ہندسوں کو بنا دہرائے 1000 اور 3000 کے بیچ اعداد بنائے جاتے ہیں جو 4 سے قابل تقسیم ہوں تب ایسے تمام اعداد کی تعداد _____ ہے۔</p> |

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                                 |
| Item No:       | 24                                                                                                                                                                                    |
| Question ID:   | 1449624                                                                                                                                                                               |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                        |
| Question:      | <p>اگر <math>\sum_{k=1}^{10} \frac{k}{k^4 + k^2 + 1} = \frac{m}{n}</math> جہاں <math>m</math> اور <math>n</math> کو پرائم (co-prime) ہیں تب <math>m + n</math> _____ کے برابر ہے۔</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                                                                           |
| Item No:       | 25                                                                                                                                                                                                                              |
| Question ID:   | 1449625                                                                                                                                                                                                                         |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                  |
| Question:      | <p>وقفہ <math>[0, 2\pi]</math> میں مساواتوں کے نظام <math>2\sin^2\theta - \cos 2\theta = 0</math> اور <math>2\cos^2\theta + 3\sin\theta = 0</math> کے حلوں کا جوڑ <math>k\pi</math> ہے تب <math>k</math> _____ کے برابر ہے۔</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item No:       | 26                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question ID:   | 1449626                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question:      | <p>40 مشاہدوں کا درمیانہ اور معیاری انحراف بالترتیب 30 اور 5 ہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ ان مشاہدوں میں سے دو مشاہدے 12 اور 10 غلط ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اگر دو غلط مشاہدوں کو ہٹانے کے بعد بچے ڈیٹا کا معیاری انحراف <math>38\sigma^2</math> کے برابر ہے۔</p> |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Topic:       | Mathematics-Section B |
| Item No:     | 27                    |
| Question ID: | 1449627               |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                             |
| Question:      | خطوں $L: lx - y + 3(1 - l)z = 1$ ، $x + 2y - z = 2$ سے گزرنے والا اور مستوی $3x + 2y + z = 6$ پر عمود مستوی $3x - 8y + 7z = 4$ ہے۔ اگر خط $L$ اور $y$ محور کے درمیان زاویہ $\theta$ ہے تب $415 \cos^2 \theta$ کے برابر ہے۔ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Item No:       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Question ID:   | 1449628                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Question:      | فرض کریں کہ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} - y = 2 - e^{-x}$ کے حل کا منحنی $y = y(x)$ ہے اس طرح کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ متناہی ہے۔ اگر $x = 0$ پر منحنی کے لیے مماس کے $x$ - اور $y$ -مقطعے (intercept) بالترتیب 'a' اور 'b' ہیں تب $a - 4b$ کی قدر _____ کے برابر ہے۔ |

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                                                   |
| Item No:       | 29                                                                                                                                                                                                      |
| Question ID:   | 1449629                                                                                                                                                                                                 |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                          |
| Question:      | 100 کو پہلا اور 199 کو آخری رکن لے کر اور تکمیلی یکساں فرق کے ساتھ مختلف A.P. بنائی جاتی ہیں۔ ایسی ساری A.P. کے یکساں فرق کا جوڑ جن میں کم سے کم ارکان 3 ہوں اور زیادہ سے زیادہ ارکان 33 ہوں، _____ ہے۔ |

|                |                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Mathematics-Section B                                                                                                                                                  |
| Item No:       | 30                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 1449630                                                                                                                                                                |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                         |
| Question:      | ایسی ساری ماتریسوں $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ جہاں $a, b, c, d \in \{-1, 0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ ہے، کی تعداد _____ ہے اس طرح کہ $A = A^{-1}$ |

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                  |
| Item No:       | 31                                                                                                                                 |
| Question ID:   | 1449631                                                                                                                            |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                |
| Question:      | دو داغیانوں کو مساوی ابتدائی رفتاروں کے ساتھ افق سے $45^\circ$ اور $30^\circ$ کے زاویوں سے داغا جاتا ہے۔ ان کی رینج کا تناسب ہوگا: |
| A:             | 1: $\sqrt{2}$                                                                                                                      |
| B:             | $\sqrt{2}$ : 1                                                                                                                     |
| C:             | 2: $\sqrt{3}$                                                                                                                      |

|    |              |
|----|--------------|
| D: | $\sqrt{3}:2$ |
|----|--------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Item No:       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 1449632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question:      | ایک ورنیر کیلیپرس میں ورنیر پیمانے کے 10 خانے صدر پیمانے کے 9 خانوں کے مساوی ہیں۔ جب ورنیر کیلیپرس کے جیڑے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو ورنیر پیمانے کا صفر صدر پیمانے کے صفر سے بائیں جانب کھسک جاتا ہے اور ورنیر پیمانے کا چوتھا خانہ صدر پیمانے کی ریڈنگ سے پوری طرح متوارد ہوتا ہے۔ صدر پیمانے کا ایک خانہ 1mm کے مساوی ہے۔ ایک کروی جسم کا قطر ناپنے کے دوران جسم دو جیڑوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ورنیر پیمانے کا صفر صدر پیمانے کے 30 اور 31 کے بیچ میں ہے اور ورنیر پیمانے کا 6واں خانہ صدر پیمانے کے ایک خانے سے متوارد ہوتا ہے۔ اس کروی جسم کا قطر ہے: |
| A:             | 3.02 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B:             | 3.06 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C:             | 3.10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D:             | 3.20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Item No:       | 33                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question ID:   | 1449633                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Question:      | 0.15kg کمیت کی ایک گیند $12\text{ms}^{-1}$ کی ابتدائی چال سے ایک دیوار سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کر اپنی ابتدائی چال تبدیل کیے بنا واپس لوٹتی ہے۔ اگر اس تماس کے دوران دیوار کے ذریعے گیند پر لگائی گئی قوت 100N ہو تو گیند کے دیوار کے ساتھ تماس کی مدت کا حساب لگائیے: |
| A:             | 0.018 s                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B:             | 0.036 s                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C:             | 0.009 s                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D:             | 0.072 s                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                          |
| Item No:       | 34                                                                                                                         |
| Question ID:   | 1449634                                                                                                                    |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                        |
| Question:      | 8kg کمیت کا ایک جسم اور 2kg کمیت کا ایک جسم مساوی حرکیاتی توانائی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ ان کے معیار اثر کا تناسب ہو گا۔ |
| A:             | 1:1                                                                                                                        |
| B:             | 2:1                                                                                                                        |
| C:             | 1:4                                                                                                                        |
| D:             | 4:1                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                                                                                       |
| Item No:       | 35                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Question ID:   | 1449635                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Question:      | دو پکساں برقی بردار کروئی موصل $A$ اور $B$ جن کی نصف قطر $5\text{mm}$ اور $10\text{mm}$ ہیں ایک دوسرے سے $2\text{cm}$ کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ اگر کرے ایک جوڑنے والے تار سے جڑے ہیں تب حالت توازن میں $A$ اور $B$ کی سطحوں پر برقی میدانوں کا تناسب ہوگا: |
| A:             | 1:2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B:             | 2:1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C:             | 1:1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D:             | 1:4                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                |
| Item No:       | 36                                                                                                                                                               |
| Question ID:   | 1449636                                                                                                                                                          |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                              |
| Question:      | ایک مستوی برقی مغناطیسی موج کا مغناطیسی میدان $B_y = 5 \times 10^{-6} \sin 1000\pi(5x - 4 \times 10^8 t) \text{T}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ برقی میدان کی وسعت ہوگی: |
| A:             | $15 \times 10^2 \text{Vm}^{-1}$                                                                                                                                  |
| B:             | $5 \times 10^{-6} \text{Vm}^{-1}$                                                                                                                                |
| C:             | $16 \times 10^{12} \text{Vm}^{-1}$                                                                                                                               |
| D:             | $4 \times 10^2 \text{Vm}^{-1}$                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                              |
| Item No:       | 37                                                                                                                                                                             |
| Question ID:   | 1449637                                                                                                                                                                        |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                            |
| Question:      | دو واسطوں $M_1$ اور $M_2$ میں ایک نور کی کرن بالترتیب $1.5 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$ اور $2.0 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$ کی چالوں سے سفر کرتی ہے۔ ان کے بیچ فاصلہ زاویہ ہے: |
| A:             | $\tan^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{7}}\right)$                                                                                                                                     |
| B:             | $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$                                                                                                                                            |
| C:             | $\cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$                                                                                                                                            |
| D:             | $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                                                   |
| Item No:       | 38                                                                                                                                                                                                                  |
| Question ID:   | <b>1449638</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                 |
| Question:      | ایک جسم زمین کی سطح سے عمودی طور پر اوپر کی طرف فراری رفتار کے ایک تہائی کی رفتار سے داغا جاتا ہے۔ جسم کے ذریعے حاصل کی گئی اعظم ترین اونچائی ہوگی:<br>(لیجیے زمین کا نصف قطر = 6400km اور $g=10 \text{ ms}^{-2}$ ) |
| A:             | 800 km                                                                                                                                                                                                              |
| B:             | 1600 km                                                                                                                                                                                                             |
| C:             | 2133 km                                                                                                                                                                                                             |
| D:             | 4800 km                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                           |
| Item No:       | 39                                                                                                          |
| Question ID:   | <b>1449639</b>                                                                                              |
| Question Type: | MCQ                                                                                                         |
| Question:      | ایک وسعت تلحسین شدہ سگنل میں اعظم ترین اور اقل ترین وولٹیج بالترتیب 60V اور 20V ہیں۔ فیصد تلحسین نما ہو گا۔ |
| A:             | 0.5%                                                                                                        |
| B:             | 50%                                                                                                         |
| C:             | 2%                                                                                                          |
| D:             | 30%                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                |
| Item No:       | 40                                                                                                                                                               |
| Question ID:   | <b>1449640</b>                                                                                                                                                   |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                              |
| Question:      | حالت سکون میں ایک کمیت M کا مرکزہ کمیتوں $\frac{M'}{3}$ اور $\frac{2M'}{3}$ ( $M' < M$ ) کے دو حصوں میں ٹوٹتا ہے۔ ان دو حصوں کے ڈی براگلی طول موج کا تناسب ہوگا: |
| A:             | 1:2                                                                                                                                                              |
| B:             | 2:1                                                                                                                                                              |
| C:             | 1:1                                                                                                                                                              |
| D:             | 2:3                                                                                                                                                              |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Topic:         | Physics-Section A |
| Item No:       | 41                |
| Question ID:   | <b>1449641</b>    |
| Question Type: | MCQ               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | ابعاد $60\text{cm} \times 50\text{cm} \times 20\text{cm}$ کا برف کا ایک ٹکڑا $1\text{cm}$ موٹائی کی دیوار والے حرارت مزاحم ڈبے میں رکھا ہے۔ وہ ڈبہ جس میں برف کو $0^\circ\text{C}$ پر رکھا گیا ہے $40^\circ\text{C}$ درجہ حرارت کے ایک کمرے میں لایا جاتا ہے۔ برف کے پگھلنے کی تقریباً شرح ہوگی:<br>(برف کے پگھلاؤ کی مخفی حرارت $3.4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ہے اور حرارت مزاحم دیوار کی حراری ایصالیت $0.05 \text{ Wm}^{-1}\text{C}^{-1}$ ہے) |
| A:        | $61 \times 10^{-3} \text{ kg s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B:        | $61 \times 10^{-5} \text{ kg s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C:        | $208 \text{ kg s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D:        | $30 \times 10^{-5} \text{ kg s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                    |
| Item No:       | 42                                                                                                                   |
| Question ID:   | <b>1449642</b>                                                                                                       |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                  |
| Question:      | ایک گیس کے آزادی کے درجات $n$ ہیں۔ مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت اور مستقل دباؤ پر گیس کی نوعی حرارت کا تناسب ہوگا: |
| A:             | $\frac{n}{n+2}$                                                                                                      |
| B:             | $\frac{n+2}{n}$                                                                                                      |
| C:             | $\frac{n}{2n+2}$                                                                                                     |
| D:             | $\frac{n}{n-2}$                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                  |
| Item No:       | 43                                                                                                                                                                                 |
| Question ID:   | <b>1449643</b>                                                                                                                                                                     |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                |
| Question:      | ایک طولی موج $y = 2\sin(\omega t - kx) \text{ cm}$ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس موج کی طول موج کیا ہوگی جس کے لیے موج کی رفتار ذرے کی اعظم ترین رفتار کے مساوی ہو جاتی ہے۔ (جواب cm میں) |
| A:             | $4\pi$                                                                                                                                                                             |
| B:             | $2\pi$                                                                                                                                                                             |
| C:             | $\pi$                                                                                                                                                                              |
| D:             | 2                                                                                                                                                                                  |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Topic:         | Physics-Section A |
| Item No:       | 44                |
| Question ID:   | <b>1449644</b>    |
| Question Type: | MCQ               |


|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | <p>6V کی ایک بیٹری کو مندرجہ ذیل سرکٹ کی طرز پر جوڑا گیا ہے۔ بیٹری سے حاصل شدہ برقی رو ہوگی:</p> |
| A:        | 1A                                                                                               |
| B:        | 2A                                                                                               |
| C:        | $\frac{6}{11} A$                                                                                 |
| D:        | $\frac{4}{3} A$                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item No:       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question ID:   | 1449645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question:      | <p>مضمر فرق <math>V</math> کے ایک ماخذ کو دو یکساں مکشوفوں کے اجتماع سے جوڑا گیا ہے۔ جب کنجی 'k' بند ہوتی ہے تب اس اجتماع میں ذخیرہ خیز کل توانائی <math>E_1</math> ہے۔ اب کنجی کھول دی جاتی ہے اور دو برقی مستقلہ 5 کا ایک دو برقی مادہ مکشوفوں کی چادروں کے بیچ ڈالا جاتا ہے تو اس اجتماع میں کل ذخیرہ توانائی <math>E_2</math> ہو جاتی ہے۔ <math>E_1/E_2</math> کا تناسب ہوگا:</p> |
| A:             | $\frac{1}{10}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B:             | $\frac{2}{5}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C:             | $\frac{5}{13}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D:             | $\frac{5}{26}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Topic:         | Physics-Section A |
| Item No:       | 46                |
| Question ID:   | 1449646           |
| Question Type: | MCQ               |

دو ہم مرکز دائروں کی چھانے جن کی نصف قطر  $r_1=30\text{ cm}$  اور  $r_2=50\text{ cm}$  ہیں، X-Y مستوی میں شکل کی طرز پر رکھے جاتے ہیں۔ ان میں شکل میں دکھائی گئی سمت میں ایک برقی رو  $I = 7\text{ A}$  بہتی ہے۔ ان دو دائروں کی چھانوں کا مقناطیسی معیار اثر تقریباً ہو گا:

Question:



A:  $\frac{7}{2} \hat{k} \text{ Am}^2$

B:  $-\frac{7}{2} \hat{k} \text{ Am}^2$

C:  $7 \hat{k} \text{ Am}^2$

D:  $-7 \hat{k} \text{ Am}^2$

Topic: Physics-Section A

Item No: 47

Question ID: 1449647

Question Type: MCQ

Question: رفتار منتخب کرنے کے ایک نظام میں برقی میدان  $\vec{E} = E \hat{k}$  اور مقناطیسی میدان  $\vec{B} = B \hat{j}$  ہے جہاں  $B = 12\text{ mT}$  مثبت x محور میں حرکت کرتے ہوئے  $728\text{ eV}$  الیکٹران کے بنا اپنی راہ بدلے گزرنے کے لیے درکار E کی قدر ہو گی۔ (دیا ہے، الیکٹران کی کمیت  $9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$ )

A:  $192\text{ kVm}^{-1}$

B:  $192\text{ mVm}^{-1}$

C:  $9600\text{ kVm}^{-1}$

D:  $16\text{ kVm}^{-1}$

Topic: Physics-Section A


Item No: 48

Question ID: 1449648

Question Type: MCQ



دو کمیتیں  $M_1$  اور  $M_2$  ایک ہلکی نہ کھنچنے والی ڈوری کے سروں پر ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں جو کہ ایک بے رگڑ چرخی سے ہو کر گزرتی ہے۔ جب کمیت  $M_2$  کمیت  $M_1$  کی دوگنی ہوتی ہے تو نظام کا اسراع  $a_1$  ہے۔ جب کمیت  $M_2$  کمیت  $M_1$  کی تین گنی ہوتی ہے تو نظام کا اسراع  $a_2$  ہے۔ تناسب  $a_1/a_2$  کا پتہ لگائیے:



Question:

- A:  $\frac{1}{3}$   
 B:  $\frac{2}{3}$   
 C:  $\frac{3}{2}$   
 D:  $\frac{1}{2}$

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section A                                                             |
| Item No:       | 49                                                                            |
| Question ID:   | <b>1449649</b>                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                           |
| Question:      | دو مرکوزوں کے کمیت اعداد کا تناسب 4:3 ہے۔ ان کی مرکوزی کثافتوں کا تناسب ہوگا: |
| A:             | 4 : 3                                                                         |
| B:             | $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$                                      |
| C:             | 1 : 1                                                                         |
| D:             | $\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$                                      |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Topic:         | Physics-Section A |
| Item No:       | 50                |
| Question ID:   | <b>1449650</b>    |
| Question Type: | MCQ               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | ایک کریں کے ذریعے وزن کو اٹھانے کے لیے استعمال کی جانے والی رسی کی عمودی تراش کا رقبہ $2.5 \times 10^{-4} m^2$ ہے۔ کریں کی اعظم ترین وزن اٹھانے کی صلاحیت 10 میٹرک ٹن ہے۔ کریں کی وزن اٹھانے کی صلاحیت کو 25 میٹرک ٹن تک بڑھانے کے لیے رسی کے عمودی تراش کا رقبہ ہونا چاہیے:<br>(لیجیے $g=10 ms^{-2}$ ) |
| A:        | $6.25 \times 10^{-4} m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B:        | $10 \times 10^{-4} m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C:        | $1 \times 10^{-4} m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D:        | $1.67 \times 10^{-4} m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                               |


|                |                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section B                                                                                                                                                   |
| Item No:       | 51                                                                                                                                                                  |
| Question ID:   | 1449651                                                                                                                                                             |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                      |
| Question:      | اگر $\vec{A} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) m$ اور $\vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}) m$ ہیں تب سمتیہ $\vec{A}$ کا سمتیہ $\vec{B}$ کے ہمراہ جز $m$ ہوگا: |

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section B                                                                                                                                              |
| Item No:       | 52                                                                                                                                                             |
| Question ID:   | 1449652                                                                                                                                                        |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                 |
| Question:      | ایک اسطوانی سلاخ کی لمبائی کے عمودی اور اس کے مرکز سے گزرنے والی گردشی محور کے اطراف جائزیشن کا نصف قطر $m$ ہوگا۔<br>(دیا ہے سلاخ کی لمبائی $10\sqrt{3} m$ ہے) |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Topic:         | Physics-Section B |
| Item No:       | 53                |
| Question ID:   | 1449653           |
| Question Type: | Numeric Answer    |

دی گئی شکل میں ایک مساوی الاضلاع منشور کے رخ AC کو انعطاف نما 'n' کے ایک سیال میں ڈبویا جاتا ہے اس طرح کہ رخ AC پر  $60^\circ$  زاویے پر واقع پزیر کرن AC کے ہمراہ گزرے۔ سیال کا انعطاف نما  $n = \frac{\sqrt{x}}{4}$  ہے۔ x کی قدر \_\_\_\_\_ ہے۔ (دیا ہے کہ کاتج کا انعطاف نما = 1.5)

Question:



Topic: Physics-Section B

Item No: 54

Question ID: 1449654

Question Type: Numeric Answer

Question:

دو ہلکے مرکزے مل کر ایک مابالنتہ بھاری مرکزہ نیچے دیے گئے تعلق کی طرز پر بناتے ہیں۔  

$${}^2_1X + {}^2_1X = {}^4_2Y$$
 اور  ${}^4_2Y$  کے لیے بندشی توانائی فی نیوکلیان بالترتیب 1.1 MeV اور 7.6 MeV ہیں۔ اس عمل میں نکلنے والی توانائی ہوگی۔

Topic: Physics-Section B

Item No: 55

Question ID: 1449655

Question Type: Numeric Answer

Question:

ایک یکساں بھاری سلاخ جس کی کمیت 20kg ، عمودی تراش کا رقبہ  $0.4m^2$  اور لمبائی 20m ہے ایک غیر متغیر سہارے سے لٹک رہی ہے۔ اگر پہلوئی سکڑاؤ کو نظر انداز کیا جائے تو اس کے خود کے وزن کی وجہ سے سلاخ کی لمبائی میں بڑھوتری  $10^{-9} m$  ہے۔ x کی قدر \_\_\_\_\_ ہے۔  
 ( $g=10 ms^{-2}$  اور  $y=2 \times 10^{11} Nm^{-2}$ )

Topic: Physics-Section B


Item No: 56

Question ID: 1449656

Question Type: Numeric Answer

CE تشاکل میں ایک ٹرانسسٹر کی ٹرانسفر کیریکٹر اسٹکس شکل میں دکھائی گئی ہے۔  $2k\Omega$  کا لوڈ مزاحمہ سرکٹ کی جمع کار شاخ میں جوڑا گیا ہے۔ ٹرانسسٹر کی ٹیٹ مزاحمت  $0.50k\Omega$  ہے۔ ٹرانسسٹر کا وولٹیج گین \_\_\_\_\_ ہو گا۔

Question:



Topic: Physics-Section B

Item No: 57

Question ID: 1449657

Question Type: Numeric Answer

Question:

تین نقطی برقی باروں  $5\mu C$ ,  $0.16\mu C$  اور  $0.3\mu C$  کو ایک قائم زاویہ مثلث کے A, B اور C راسوں پر رکھا گیا ہے جس کے اضلاع  $AB = 3\text{cm}$ ,  $BC = 3\sqrt{2}\text{cm}$  اور  $CA = 3\text{cm}$  ہیں اور A زاویہ قائمہ والا سرا ہے۔ A سرے پر موجود برقی بار باقی برقی باروں کی وجہ سے \_\_\_\_\_ N کی برقی سکونی قوت کو محسوس کرے گا۔

Topic: Physics-Section B

Item No: 58

Question ID: 1449658

Question Type: Numeric Answer

Question:

$8\Omega$  مزاحمت کے ایک لچھے میں بیرونی مقناطیسی میدان کی وجہ سے مقناطیسی نفاض  $\phi = \frac{2}{3}(9 - t^2)$  کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ لچھے میں پیدا ہونے والی کل حرارت J ہوگی جب تک کہ نفاض صفر ہو جائے۔

Topic: Physics-Section B



Item No: 59

Question ID: 1449659

Question Type: Numeric Answer

Question:

ایک پوٹینشیومیٹر کا تار جس کی لمبائی  $300\text{cm}$  ہے۔  $780\Omega$  کے مزاحمہ اور  $4V$  کے ایک معیاری سیل سے جڑا ہے۔ اس پوٹینشیومیٹر کے تار سے ہو کر ایک مستقل برقی رو گزرتی ہے۔  $20\text{mV}$  برقی حرکیاتی قوی کے سیل کے لیے نقطہ توازن کی لمبائی  $60\text{cm}$  پتہ کی جاتی ہے۔ پوٹینشیومیٹر کے تار کی مزاحمت  $\Omega$  ہے۔

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Physics-Section B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item No:       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Question ID:   | 1449660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Question:      | <p>دی گئی اشکال کے مطابق اسپرنگ مستقلہ <math>k</math> اور <math>2k</math> کے دو اسپرنگ کمیت <math>m</math> سے جڑے ہیں۔ اگر شکل (a) میں ابتزار کا دور <math>3s</math> ہے تب شکل (b) میں ابتزار کا دور <math>\sqrt{x} s</math> ہوگا۔ یہاں <math>x</math> کی قدر ہے۔</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>figure (a)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>figure (b)</p> </div> </div> |

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                         |
| Item No:       | 61                                                                                                                                                                                          |
| Question ID:   | 1449661                                                                                                                                                                                     |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                         |
| Question:      | <p>بیموگلوبن میں وزن سے 0.34% آئرن ہے۔ بیموگلوبن کے 3.3g میں کتنے Fe ایٹم ہوں گے۔<br/>(دیا ہوا ہے: Fe کا جوہری وزن 56u ہے اور <math>N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}</math>)</p> |
| A:             | $1.21 \times 10^5$                                                                                                                                                                          |
| B:             | $12.0 \times 10^{16}$                                                                                                                                                                       |
| C:             | $1.21 \times 10^{20}$                                                                                                                                                                       |
| D:             | $3.4 \times 10^{22}$                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Item No:       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question ID:   | 1449662                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Question:      | <p>دیے گئے مرکب کو کو ویلینٹ خصلت کی بڑھتی ترتیب میں ڈالو۔</p> <p style="text-align: right;"> <math>\text{CaF}_2</math> .A<br/> <math>\text{CaCl}_2</math> .B<br/> <math>\text{CaBr}_2</math> .C<br/> <math>\text{CaI}_2</math> .D </p> <p style="text-align: right;">صحیح جواب چنیے:</p> |
| A:             | $B < A < C < D$                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                 |
|----|-----------------|
| B: | $A < B < C < D$ |
| C: | $A < B < D < C$ |
| D: | $A < C < B < D$ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Item No:       | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Question ID:   | <b>1449663</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question:      | <p>کیمیا پڑھانے والے استاد نے بارہویں کے بچوں کو pH 8.26 کا بفر محلول بنانے کے لیے کہا۔ اس بفر کا ایک لیٹر بنانے کے لیے بچوں کو کتنے امونیم کلورائیڈ کو 0.2M امونیا محلول میں حل کرنا پڑے گا۔<br/> دیا ہوا ہے :<br/> <math>pK_b(NH_3) = 4.74</math><br/> <math>17 \text{ g mol}^{-1} = NH_3</math> کا مولر وزن<br/> <math>53.5 \text{ g mol}^{-1} = NH_4Cl</math> کا مولر وزن</p> |
| A:             | 53.5 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B:             | 72.3 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C:             | 107.0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D:             | 126.0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Item No:       | 64                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Question ID:   | <b>1449664</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question:      | <p><math>30^\circ C</math> پر <math>AB_2</math> کے سڑنے کے لیے نصف زندگی 200s ہے اور یہ ابتدائی ارتکاز پر دارومدار نہیں رکھتی۔ <math>AB_2</math> کے 80% کو سڑنے میں کتنا وقت لگے گا۔<br/> دیا ہوا ہے :<br/> <math>\log 2 = 0.30</math><br/> <math>\log 3 = 0.48</math></p> |
| A:             | 200 s                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B:             | 323 s                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C:             | 467 s                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D:             | 832 s                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A |
| Item No:       | 65                  |
| Question ID:   | <b>1449665</b>      |
| Question Type: | MCQ                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں ایک دعویٰ A اور دوسرے کو سبب R کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔<br>دعویٰ A : سونا جب بہت باریک ٹکڑوں میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے ذروں کی جسامت بڑھتی ہے اس کا رنگ پہلے ارغوانی پھر نیلا اور آخر میں سفید ہوتا ہے۔<br>سبب R : کولائڈل محلول کے رنگ کا دارومدار ذروں سے اسکیٹریڈ روشنی کی طول لہر پر ہوتا ہے۔<br>مندرجہ بالا جملوں کی روشنی میں ذیل میں دیے گئے متبادلوں میں سے سب سے موزوں جواب چنیے: |
| A:        | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B:        | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C:        | A صحیح ہے لیکن R غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D:        | A غلط ہے لیکن R صحیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                     |
| Item No:       | 66                                                                                      |
| Question ID:   | 1449666                                                                                 |
| Question Type: | MCQ                                                                                     |
| Question:      | وہ دھات جس کا نقطہ پگھلاؤ بہت کم ہے اور اس کی دوری جگہ نیم دھات کے بہت نزدیک ہے، کون ہے |
| A:             | Al                                                                                      |
| B:             | Ga                                                                                      |
| C:             | Se                                                                                      |
| D:             | In                                                                                      |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                               |
| Item No:       | 67                                                                |
| Question ID:   | 1449667                                                           |
| Question Type: | MCQ                                                               |
| Question:      | وہ دھات جس کو اس کے سلفائیڈ اور سے نہیں نکالا جاتا ہے، کون سی ہے؟ |
| A:             | Aluminium                                                         |
| B:             | Iron                                                              |
| C:             | Lead                                                              |
| D:             | Zinc                                                              |

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                         |
| Item No:       | 68                                                                          |
| Question ID:   | 1449668                                                                     |
| Question Type: | MCQ                                                                         |
| Question:      | ہائیڈروجن پر آکسائیڈ اور نیزابی پوٹیشیم پر مینگنیٹ کے تعامل پر کیا بنتا ہے؟ |
| A:             | صرف $Mn^{4+}$ , $H_2O$                                                      |
| B:             | صرف $Mn^{2+}$ , $H_2O$                                                      |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| C: | صرف $Mn^{4+}$ , $H_2O$ , $O_2$ |
| D: | صرف $Mn^{2+}$ , $H_2O$ , $O_2$ |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Item No:       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Question ID:   | 1449669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question:      | ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں ایک دعویٰ A اور دوسرے کو سبب R کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔<br>دعویٰ A : $LiF$ کا پانی میں کم حل پذیر ہے۔<br>سبب R : $Li^+$ کا آئیون نصف قطر اس کے گروپ رکنوں سے سب سے کم ہے جس کی وجہ سے اس کا آب پاشی اینتھالپی بہت کم ہے۔<br>مندرجہ بالا جملوں کی روشنی میں ذیل میں دیے گئے متبادلوں میں سے سب سے موزوں جواب چنیے: |
| A:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C:             | A صحیح ہے لیکن R غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D:             | A غلط ہے لیکن R صحیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Item No:       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Question ID:   | 1449670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question:      | ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں ایک دعویٰ A اور دوسرے کو سبب R کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔<br>دعویٰ A : بورک ٹیزاب کمزور تیزاب ہے۔<br>سبب R : بورک ٹیزاب خود بخود $H^+$ آئن کو نہیں چھوڑتا۔ یہ پانی سے $-OH$ نکلنے کے بعد ہی $H^+$ آئن کو چھوڑتا ہے۔<br>مندرجہ بالا جملوں کی روشنی میں ذیل میں دیے گئے متبادلوں میں سے سب سے موزوں جواب چنیے: |
| A:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C:             | A صحیح ہے لیکن R غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D:             | A غلط ہے لیکن R صحیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                             |
| Item No:       | 71                                                                              |
| Question ID:   | 1449671                                                                         |
| Question Type: | MCQ                                                                             |
| Question:      | کون سا دھاتی مرکب غیر (ڈائی) مقناطیسیت دکھائے گا۔ (Atomic number: Fe,26; Cu,29) |
| A:             | $K_3[Cu(CN)_4]$                                                                 |
| B:             | $K_2[Cu(CN)_4]$                                                                 |







|    |                 |
|----|-----------------|
| C: | $K_3[Fe(CN)_4]$ |
| D: | $K_4[FeCl_6]$   |

| Topic:              | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|
| Item No:            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| Question ID:        | 1449672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| Question Type:      | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| Question:           | <p>فہرست I کو فہرست II سے ملائیں</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>فہرست II</th> <th>فہرست I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نریجہ</td> <td>آلود کار</td> </tr> <tr> <td>I. اسٹرب میننگ</td> <td>A. خوردبینی جاندار</td> </tr> <tr> <td>II. گھریلو کچرا</td> <td>B. بیڑوں کے نحرز اجزاء</td> </tr> <tr> <td>III. کیمیائی کھاد</td> <td>C. نقصان دہ دھات</td> </tr> <tr> <td>IV. کیمیائی کارخانے</td> <td>D. تہہ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(eg: A-II, B-III, C-IV, D-I)</p> <p>ذیل میں سے صحیح جواب کیا ہے:</p> | فہرست II | فہرست I | نریجہ | آلود کار | I. اسٹرب میننگ | A. خوردبینی جاندار | II. گھریلو کچرا | B. بیڑوں کے نحرز اجزاء | III. کیمیائی کھاد | C. نقصان دہ دھات | IV. کیمیائی کارخانے | D. تہہ |
| فہرست II            | فہرست I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| نریجہ               | آلود کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| I. اسٹرب میننگ      | A. خوردبینی جاندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| II. گھریلو کچرا     | B. بیڑوں کے نحرز اجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| III. کیمیائی کھاد   | C. نقصان دہ دھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| IV. کیمیائی کارخانے | D. تہہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| A:                  | A-II, B-III, C-IV, D-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| B:                  | A-II, B-I, C-IV D-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| C:                  | A-I, B-IV, C-II, D-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |
| D:                  | A-I, B-IV, C-III, D-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |          |                |                    |                 |                        |                   |                  |                     |        |

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                |
| Item No:       | 73                                                                                                 |
| Question ID:   | 1449673                                                                                            |
| Question Type: | MCQ                                                                                                |
| Question:      | IUPAC نظام کے مطابق نامیاتی مرکبوں کے ناموں میں فنکشنل گروپ کی اہمیت کی کم ہوئی صحیح ترتیب کیا ہے۔ |
| A:             | $—COOH > —CONH_2 > —COCl > —CHO$                                                                   |
| B:             | $—SO_3H > —COCl > —CONH_2 > —CN$                                                                   |
| C:             | $—COOR > —COCl > —NH_2 > C = O$                                                                    |
| D:             | $—COOH > —COOR > —CONH_2 > —COCl$                                                                  |


|          |                     |
|----------|---------------------|
| Topic:   | Chemistry-Section A |
| Item No: | 74                  |

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Question ID:   | 1449674                                                                           |
| Question Type: | MCQ                                                                               |
| Question:      | ان میں سے بیڈائیڈ مرکب کی مثال کون سی نہیں ہے؟                                    |
| A:             |  |
| B:             |  |
| C:             |  |
| D:             |  |

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                        |
| Item No:       | 75                                         |
| Question ID:   | 1449675                                    |
| Question Type: | MCQ                                        |
| Question:      | کون سے مرکب کی آبیائی کاربولک تیزاب دے گا؟ |
| A:             | کیومین                                     |
| B:             | بینزین ڈائیازونیم کلورائیڈ                 |
| C:             | بینڈل کلورائیڈ                             |
| D:             | ایتھلین گلیکول کیٹل                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Item No:       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question ID:   | 1449676                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Question:      | $\text{EtO} - \overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}} - \text{H}_2\text{C} - \text{Cyclopentane} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN} \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DiBAL-H}} ?$ <p>[Et is <math>-\text{C}_2\text{H}_5</math>]<br/>         اوپر دیے گئے تعامل میں اہم ماہصل کیا ہوگا؟</p> |
| A:             | $\text{OHC} - \text{H}_2\text{C} - \text{Cyclopentane} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B: | $\text{EtO}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}_5\text{H}_7-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$  |
| C: | $\text{EtO}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}_5\text{H}_7-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ |
| D: | $\text{OHC}-\text{H}_2\text{C}-\text{C}_5\text{H}_7-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$                                         |

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                   |
| Item No:       | 77                                                                                                                                                    |
| Question ID:   | 1449677                                                                                                                                               |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                   |
| Question:      | <p>دی گئی تعامل کے لیے عاملات کے استعمال کی صحیح ترتیب کیا ہے؟</p>  |
| A:             | $\text{HNO}_2, \text{Fe}/\text{H}^+, \text{HNO}_2, \text{KI}, \text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$                                                          |
| B:             | $\text{HNO}_2, \text{KI}, \text{Fe}/\text{H}^+, \text{HNO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{گرم}$                                                          |
| C:             | $\text{HNO}_2, \text{KI}, \text{HNO}_2, \text{Fe}/\text{H}^+, \text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$                                                          |
| D:             | $\text{HNO}_2, \text{Fe}/\text{H}^+, \text{KI}, \text{HNO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{گرم}$                                                          |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                     |
| Item No:       | 78                                                                      |
| Question ID:   | 1449678                                                                 |
| Question Type: | MCQ                                                                     |
| Question:      | ربر کے ولکانے کے عمل میں کون سے آمیزے کو گرم کرنے سے انجام دیا جاتا ہے۔ |
| A:             | انسوپرین اور اسٹائرین                                                   |
| B:             | نیوپرین اور سلفر                                                        |
| C:             | انسوپرین اور سلفر                                                       |
| D:             | نیوپرین اور اسٹائرین                                                    |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A |
| Item No:       | 79                  |
| Question ID:   | 1449679             |
| Question Type: | MCQ                 |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Question: | انیمیل اسٹارچ کس کے لیے دوسرا نام ہے؟ |
| A:        | امیلوز                                |
| B:        | مالٹوز                                |
| C:        | گلائیکوجین                            |
| D:        | امیلوپکٹن                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Item No:       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 1449680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Question Type: | MCQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question:      | ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں ایک دعویٰ A اور دوسرے کو سبب R کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔<br>دعویٰ A: فیناپتھیلین جو ایک pH دار و مداری انڈیکٹر ہے، تیزابی پانی میں بے رنگ اور اساسی<br>وسیلے میں گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔<br>سبب R: فیناپتھیلین ایک کمزور تیزاب ہے جو اساسی وسیلے میں ٹوٹ کر علیحدہ نہیں ہوتا ہے۔<br>مندرجہ بالا جملوں کی روشنی میں ذیل میں دیے گئے متبادلوں میں سے سب سے موزوں جواب چنیے: |
| A:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B:             | A اور R دونوں صحیح ہیں اور A، R کے لیے صحیح دلیل نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C:             | A صحیح ہے لیکن R غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D:             | A غلط ہے لیکن R صحیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Item No:       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Question ID:   | 1449681                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question:      | 27°C اور 6bar پر ایک برتن جس کی جسمانییت 0.0125m <sup>3</sup> ہے میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کا 10g کا<br>آمیزہ ہے۔ اس آمیزے میں ہیلیم کا وزن g _____ ہے۔<br>دیا ہوا ہے: R = 8.3 J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup><br>H اور He کے لیے جوہری وزن بالترتیب 1u اور 4u ہیں۔ |

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                                                            |
| Item No:       | 82                                                                                                                                                             |
| Question ID:   | 1449682                                                                                                                                                        |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                 |
| Question:      | ایک خیالی آئن ${}_{22}^{48}\text{X}^{3-}$ کو تصور کرو۔ اس آئن کے نیوکلس میں الیکٹرون کی تعداد کے مقابلے میں % 'a' نیوٹرانس زیادہ ہیں۔ % 'a' کی قدر _____ ہوگی۔ |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Topic:       | Chemistry-Section B |
| Item No:     | 83                  |
| Question ID: | 1449683             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Question:      | <p>دیے گئے تعامل</p> $\text{H}_2\text{F}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g})$ <p>کے لیے <math>27^\circ\text{C}</math> پر <math>\Delta U = -59.6 \text{ kJ mol}^{-1}</math> ہے</p> <p>اس تعامل میں اینتھالپی میں تبدیلی <math>\text{kJ mol}^{-1}</math> _____ (-) ہوگی۔</p> <p>(نزدیکی صحیح عدد تک حل کریں)</p> <p>دیا ہوا ہے: <math>R = 8.314 \text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}</math></p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Item No:       | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Question ID:   | 1449684                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Question:      | <p>ایک مولل محلول غیر نباتی سالیوٹ A کے لیے نقطہ جوش میں اضافہ <math>3\text{K}</math> ہے۔ اس محلول میں A کے دو مولل محلول کے لیے نقطہ انجماد میں تخفیف <math>6\text{K}</math> ہے۔ اگر <math>K_b</math> اور <math>K_f</math> کی نسبت یعنی <math>K_b/K_f = 1</math> کے برابر ہے تو X کی قدر _____ ہوگی۔</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Item No:       | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Question ID:   | 1449685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Question:      | <p>جب <math>0.02\text{M}</math> بیہو محلول کے <math>20\text{mL}</math> کو کاپر سلفیٹ کے <math>10\text{mL}</math> محلول کے ساتھ ٹائٹریٹ کیا جاتا ہے، KI جو کثرت میں ہے اس کی موجودگی میں اور اسٹارچ انڈیکیٹر کا کام کرنا ہے۔ <math>\text{Cu}^{2+}</math> کی مولرٹی <math>\times 10^{-2}</math> _____ ہوگی۔</p> <p>دیا ہوا ہے:</p> $2 \text{Cu}^{2+} + 4 \text{I}^- \rightarrow \text{Cu}_2\text{I}_2 + \text{I}_2$ $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ |

|                |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                                                                                                                    |
| Item No:       | 86                                                                                                                                                                                                                     |
| Question ID:   | 1449686                                                                                                                                                                                                                |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                                                                                                                         |
| Question:      | <p>دیے گئے تعامل سے B میں _____ نان آئنیزبل پروٹان موجود ہوں گے</p> $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{PCl}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{A}$ $\text{A} + \text{PCl}_3 \rightarrow \text{B}$ |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B |
| Item No:       | 87                  |
| Question ID:   | 1449687             |
| Question Type: | Numeric Answer      |

|           |                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question: | MnF <sub>2</sub> اور MnF <sub>3</sub> ، MnF <sub>4</sub> میں سے جس کی سب سے زیادہ تکسیدی صلاحیت ہوگی، اس کا خالی اسپین مقناطیسی گردشہ B.M _____ ہوگا۔ (نزدیکی صحیح عدد تک حل کریں) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                   |
| Item No:       | 88                                                                                    |
| Question ID:   | <b>1449688</b>                                                                        |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                        |
| Question:      | میتھائل سائیکلو ہیکزین کی مونو کلورینیشن پر _____ کل آئسومر (اسٹیریو آئسومر) بنیں گے۔ |

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                    |
| Item No:       | 89                                                                                                     |
| Question ID:   | <b>1449689</b>                                                                                         |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                         |
| Question:      | 100mL محلول میتھینال سے ملنے پر ایک گیس کے STP پر 2.24mL بناتا ہے۔ بننے والی گیس کا وزن mg _____ ہوگا۔ |

|                |                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topic:         | Chemistry-Section B                                                                                                        |
| Item No:       | 90                                                                                                                         |
| Question ID:   | <b>1449690</b>                                                                                                             |
| Question Type: | Numeric Answer                                                                                                             |
| Question:      | دیے گئے ڈرگس میں سے کتنے ایبٹی بایوٹک وسیع اسپیکٹرم کی مثال ہے/ہیں: _____<br>او فلوکساسن، پینیسیلین جی، ٹریپینول، سالوارسن |